



سوال

کیا قیامت کا دن قریب ہے کیونکہ اس وقت سب لوگ گناہ بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

فرمان باری تعالیٰ ہے :

(لوگوں کے حساب کا وقت قریب آچکا ہے اور وہ پھر بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں) الانبیاء / 1

ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

الله تعالیٰ کی جانب سے یہ قیامت کے قریب ہونے پر تنبیہ ہے اور لوگ پھر بھی اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
یعنی انہیں اس کا علم نہیں اور نہ ہی اس وجہ سے وہ تیاری کر رہے ہیں -

تفسیر القرآن العظیم (172 / 3)

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

(الله تعالیٰ کا حکم آپنچا اب اس کے لئے جلدی نہ کرو تمام قسم کی پاکی اسی کے لئے ہے اور ان سے جنہیں یہ
شریک بناتے ہیں وہ بلند وبالا ہے) النحل / 1

ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

الله تعالیٰ قیامت کے قریب آجائے کی خبر دیے رہے ہیں اور صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے جو کہ تحقیق اور اس
کے لازمی وقوع پر دلالت کرتا ہے -

تفسیر القرآن العظیم (560 / 2)



فرماب ربانی ہے :

(قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا) القمر / 1

ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ دنیا کے ختم اور خالی ہو جانے اور قیامت کے قریب ہونے کی خبر دے رہا ہے)

تفسیر القرآن العظیم (360 / 4)

اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے :

(اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور عدل و انصاف بھی اتارا ہے اور آپ کو کیا خبر کے قیامت قریب ہی ہو) الشوری / 17

نبی صی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے :

(میں کیسے آسودہ حال رہوں حالانکہ صور پھونکنے والے نے صور کو پکڑ لیا ہے اور کان لگا رکھے ہیں کہ کب اسے حکم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مارے ؟ تو یہ نبی صی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت بھاری ہو گیا تو نبی صی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا : حسینا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا) کہا کرو)

صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 1980

اور احمد اور مسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قیامت صرف برے اور شریر لوگوں پر ہی قائم ہو گی -

صحیح مسلم حدیث نمبر 5243 مسند احمد حدیث نمبر 3548

اور احمد اور بخاری نے مردار اسلامی رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ :

نبی صی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح اور نیک لوگ پہلے چلے جائیں گے اور گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جس طرح کہ گھٹیا جو یا کھجور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا -

صحیح الجامع حدیث نمبر 7934



اور احمد اور بخاری مسلم اور ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ :

وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو کہ میرے بعد کوئی نہیں بیان کرے گا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

(قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گی اور جہالت عام اور ظاہر ہو جائے گی اور زنا عام ہو گا اور عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں پر ایک آدمی نگران ہو گا)

صحیح بخاری حدیث نمبر 79 صحیح مسلم حدیث نمبر 4825 یہ الفاظ مسلم کے ہیں مسند احمد حدیث نمبر 12735
سنن ترمذی حدیث نمبر 2131

اور طبرانی میں ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا اور بہتان بازی اور مسخ ہو گا جب گانے بجائے آلات موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے اور شراب کو حلال کر لیا جائے گا ۔ صحیح الجامع 3665

یہ سب نصوص اپنے صریح منطق کے اعتبار سے قرب قیامت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ کہ گناہوں کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور کفار قیامت کو دور سمجھتے اور اس کے آئے میں دیر سمجھتے ہیں لیکن معاملہ اس طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے :

(بیشک وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں)

ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں نجات اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں ۔

سب تعریفات رب العالمین کے لئے ہیں

والله اعلم ۔